



Zero tolerance for child abuse

عربي

نحن آمنون على الأطفال

ليس لدينا أي تسامح مع سوء معاملة الأطفال

يجب أن يكون جميع الأطفال والشباب آمنين وأن يشعروا بالأمان. كل من يعمل هنا يجب أن يساعد في تحقيق ذلك.

إذا أخبرتنا عن شيء جعلك تشعر أنت أو صديقك بعدم الأمان، فسنستمع إليك ونتخذ الإجراءات اللازمة. سنتحدث معك حول ما سنفعله، وسنتخذ إجراءات سريعة.

نريد:

- لكل طفل وشاب أن يشعر بالانتماء وبأنه يتم احترامه والاستماع إليه. يمكنك مشاركة أفكارك معنا وسنستخدمها لمساعدتنا على تحسين عملنا.
- لكل طفل وشاب من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس أن يفرح ويشارك ثقافته.

Ελληνικά

Είμαστε Ασφαλείς - Για Παιδιά

Μηδενική ανοχή στη κακοποίηση παιδιών

Όλα τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να είναι ασφαλείς και να αισθάνονται ασφαλείς. Όλοι όσοι εργάζονται εδώ πρέπει να βοηθήσουν να συμβεί αυτό.

Εάν μας πείτε για κάτι που έχει κάνει εσάς ή ένα φίλο σας να αισθάνεται ανασφαλείς, θα το λάβουμε υπ' όψη μας και θα αναλάβουμε δράση. Θα μιλήσουμε μαζί σας για το τι πρόκειται να κάνουμε, και στη συνέχεια θα το κάνουμε γρήγορα.

Θέλουμε κάθε

παιδί και έφηβος άτομο να έχει την αίσθηση του ανήκειν, να αισθάνεται ότι το σέβονται και ακούγεται η φωνή του.

- Μπορείτε να μοιραστείτε τις ιδέες σας μαζί μας και θα τις χρησιμοποιήσουμε για να μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε στη δουλειά μας.
- παιδί και νεαρό άτομο Ιθαγενή και Νησιώτη του Πορθμού Τόρρες να γιορτάζουν και να μοιράζονται τους πολιτισμούς τους.

Italiano

Da noi i bambini e le bambine sono sicuri/e

Tolleranza zero per gli abusi sui/sulle minori

Tutti i bambini, le bambine e i/le giovani dovrebbero essere sicuri/e e sentirsi sicuri/e. Tutte le persone che lavorano qui devono fare la loro parte perché questo accada.

Se ci dici che c'è qualcosa che fa sentire te o un tuo amico o una tua amica non sicuro/a, noi siamo qui per ascoltarti e per intervenire. Ti diremo cosa faremo, e poi agiremo rapidamente.

Vogliamo che ogni

- bambino, bambina e giovane si senta a suo agio e si senta rispettato/a e ascoltato/a. Puoi condividere con noi le tue idee, e noi le useremo per migliorare quello che facciamo.
- bambino, bambina e giovane aborigeno/a e isolano/a dello Stretto di Torres celebri e condivida la sua cultura.

ਪੰਜਾਬੀ

हामी कहाँ बालबालिका सुरक्षित हुन्छ

बाल दुर्व्यवहारको लागि शून्य सहनशीलता

सबै बालबालिका र युवायुवतीहरू सुरक्षित हुनुपर्छ र सुरक्षित महसुस गर्नुपर्छ। यहाँ काम गर्ने सबैले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ।

यदि तपाईंले आफू वा आफ्नो साथीलाई असुरक्षित महसुस गराउने कुनै कुराको बारेमा हामीलाई जानकारी दिनु भएमा हामी तपाईंको कुरा सुन्नेछौं र कारबाही गर्नेछौं। हामी के गर्न जाँदछौं भन्ने बारे तपाईंसँग कुरा गर्नेछौं, र त्यसपछि यसलाई तुरुन्तै गरिहाल्छौं।

हामी चाहन्छौं कि सबै

- बालबालिका र युवा व्यक्तिले आफ्नोपना महसुस गरेको, उनीहरूलाई आदर गरेको र उनीहरूका कुराहरू सुनोस् तपाईं आफ्नो विचारहरू हामीसँग साझा गर्न सक्नुहुनेछ र हामी हाम्रो कामलाई अझ राम्रो बनाउन मद्दत गर्न प्रयोग गर्नेछौं।
- आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्याण्डर बालबालिका र जवान व्यक्ति आफ्नो संस्कृति मनाऔस् र साझेदारी गरोस्।

普通话

我们保障儿童安全

对虐儿行为零容忍

所有儿童和青少年都应该得到安全保障，并拥有安全感。本机构全体工作人员都必须致力于实现这一目标。

如果您遭遇了让您本人或您的朋友感到不安全的事件，请告知我们，我们会倾听并采取行动。我们会与您商讨对事件的处理方式，然后迅速采取行动。

我们希望每一个

- 儿童和青少年都有归属感，感到被尊重和倾听。您可以和我们分享您的想法，用以帮助我们改进工作。
- 原住民和托雷斯海峡岛民的儿童和青少年以他们的文化为自豪，并分享他们的文化。

Türkçe

Çocuk Güvenliği

Çocuk istismarına sıfır tolerans

Tüm çocuklar ve gençler güvende olmalı ve kendilerini güvende hissetmelidir. Burada çalışan herkes bunun gerçekleşmesine yardımcı olmalıdır.

Bize sizi veya bir arkadaşınızı güvensiz hissettiren bir şey hakkında bilgi verirseniz, sizi dinleriz ve harekete geçeriz. Ne yapacağımızı sizinle konuşacağız ve sonra bunu hızlı bir şekilde yerine getireceğiz.

Aşağıda belirtilenlerin gerçekleşmesini istiyoruz

- Her bir çocuk ve gencin aidiyetini, saygı gördüğünü ve kendisine kulak verildiğini hissetmesi. Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Fikirlerinizi işimizde daha iyi olmamıza yardımcı olmak için kullanacağız.
- Her bir Aborijin ve Torres Strait Adaları halkları çocuk ve gençlerinin kültürlerini kutlaması ve paylaşması.

اردو

ہم بچوں کے لیے ایک محفوظ جگہ ہیں

بچوں کیساتھ بدسلوکی کے لیے مکمل عدم برداشت

تمام بچے اور نوجوان لوگوں کو محفوظ رہنا اور انہیں خود کو محفوظ محسوس کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو جو یہاں کام کرتا ہے اسے ایسا کرنے میں لازماً مدد دینی چاہیے۔

اگر آپ ہمیں کسی ایسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ یا آپ کا کوئی دوست خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، تو ہم سنیں گے اور کارروائی کریں گے۔ ہم آپ سے اس بارے میں بات کریں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اسے جلدی کریں گے

ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک

- بچہ اور نوجوان شخص محسوس کرے کہ اس کا اس جگہ سے تعلق ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے اور اسے سنا جاتا ہے۔ آپ اپنے خیالات کا ہمارے ساتھ اشتراک کر سکتے ہیں اور ہم انہیں اپنے کام کو بہتر بنانے میں اپنی مدد کے لیے استعمال کریں گے۔
- ایبوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر بچے اور نوجوان لوگ اپنی ثقافتوں کا جشن منائیں اور اشتراک کریں۔



For more information visit

→ merri-bek.vic.gov.au/child-safety

For support contact

Kids Helpline → 1800 55 1800

Lifeline → 13 11 14



Merri-bek
City Council